

برائے فوری اجراء

برامپٹن، جونو ایوارڈ یافتہ بیڈ لائبر واک آف دی ارتھ کے ساتھ کینیڈا ڈے آن لائن طور پر منائے گا

برامپٹن، آن (23 جون 2020) – کووڈ-19 (کورونا وائرس) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن اپنے کینیڈا ڈے کے جشن کو آن لائن لے کر جا رہا ہے! سٹی اس سال کے بیڈ لائبر اور جونو ایوارڈ یافتہ بیڈ واک آف دی ارتھ کا اعلان کرنے پر انتہائی پرجوش ہے۔

یہ تقریب بروز بدھ، 1 جولائی کو دوپہر تا رات 10 بجے تک www.brampton.ca/canadaday پر منعقد کی جائے گی۔ اس میں پورا دن خاندان دوست سرگرمیاں، اصلی کینیڈین کھانے، گھر لے کر جانے کے لیے اور ڈیلیوری کی سہولت کی پیشکش کرنے والے ریسٹورینٹس کی فہرست اور مزید چیزیں دستیاب ہوں گی۔

اس سال، ہر شخص کو اپنے گھر میں بیٹھے برامپٹن کے کینیڈا ڈے کے منظر پر سب سے اگلی سیٹ مل رہی ہے۔ الیکٹرا کی جانب سے پیش کیا جانے والا ایک ڈیجیٹل اسٹیج شام 5:30 پر اسٹریمنگ شروع کرے گا، جس میں مقامی فنکاروں اور جونو ایوارڈ یافتہ بیڈ لائبر واک آف دی ارتھ کی جانب سے فن کے مظاہرے شامل ہوں گے۔

رات 8 بجے یہ اسٹریم اوٹاوا سے نشر ہونے والی CBC کی پورے ملک کے لیے کینیڈا ڈے کی آن لائن نشریات پر منتقل ہو جائے گی، جہاں فن کا مظاہرہ پیش کرنے والے فنکاروں میں برامپٹن کے فنکار بیویا مائیٹی بھی شامل ہوں گی۔

جشن کے اختتام کے لیے، نظریں آگمینٹڈ ریئلٹی میں آتش بازیوں کا ایک زبردست تجربہ حاصل کر سکتے ہیں! ٹم ہورٹنز کے تعاون سے ہونے والا آتش بازیوں کا یہ ڈیجیٹل مظاہرہ رہائشیوں کو کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران کینیڈا ڈے کی روایتی آتش بازیوں کا ایک منفرد اور محفوظ نعم البدل پیش کرے گا۔ یہ ورچوئل شو سنہ 2019 کی کمیونٹی ہب کی مدد سے رات 10 بجے شروع ہو گا۔

برامپٹن کینیڈا ڈے الیکٹرا، ٹم ہورٹنز، آل سٹیٹ، الگوما یونیورسٹی اور بیل کے فراخدلانہ تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔

گھل مل جائیں!

- سوشل میڈیا پر ہمیں @ExperienceBrampton اور @CityBrampton پر فالو کریں۔
- #BramptonCanadaDayatHome اور #BramptonTogether استعمال کر کے اپنے گھر پر کینیڈا ڈے کے جشن کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کریں۔
- کسی مقامی ریسٹورینٹ سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ #SupportLocalBrampton استعمال کریں۔

اقتباسات

"تمام لوگوں کو کووڈ-19 سے محفوظ اور سلامت رکھنے کے لیے برامپٹن کا کینیڈا ڈے کا جشن اس سال کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے، کوئی کینیڈین کھانا پکانے یا کسی مقامی ریسٹورینٹ سے آرڈر کرنے کے لیے اور برامپٹن کے فنکاروں اور جونو ایوارڈ یافتہ بیڈ لائبر واک آف دی ارتھ کی جانب سے مظاہروں کے ساتھ اپنے ملک کا جشن منانے کے لیے www.brampton.ca/canadaday ملاحظہ کریں – میں جانتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان اس سب کے دوران اس جشن سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس سال برامپٹن میں کینیڈا ڈے اپنوں سے زیادہ قریب ہو گا اور ایسا سب کے لیے اچھا ہے۔ لطف اندوز ہوں اور محفوظ رہیں – آپ مقامی کاروباروں کی مدد کر سکتے ہیں اور برامپٹن کے کئی مزیدار ریسٹورینٹس سے گھر لے کر جانے کے لیے بھی کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، ان مظاہروں کے ساتھ ڈانس پارٹی کر سکتے ہیں، جن کا ہم نے انتظام کیا ہے، اس کے علاوہ آن لائن آتش بازی کا ایک منفرد تجربہ حاصل کر سکتے ہیں اور مزید بہت کچھ!"

- گرہریت ڈھلن، ریجنل کونسلر، وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

"ہم کووڈ-19 کے ردعمل میں اس سال ہر شخص کی صحت و سلامتی کے لیے کینیڈا ڈے کو آن لائن طور پر منا رہے ہیں۔ ہم شاید جسمانی طور پر تو دور ہوں، مگر ہمارے دل پہر بھی ایک دوسرے سے جڑے رہ سکتے ہیں! سوشل میڈیا کے ذریعے #BramptonTogether، #BramptonCanadaDayatHome استعمال کرتے ہوئے اور اگر آپ کسی مقامی ریستورینٹ سے آرڈر کر رہے ہیں، تو #SupportLocalBrampton استعمال کر کے گھر پر اپنے کینیڈا ڈے کے جشن کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا نہ بھولیں۔"

- پال ونسیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

"سٹی کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتے ہوئے کمیونٹی کی صحت و سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ کینیڈا ڈے برامپٹن کے سب سے بڑے جشن میں سے ایک ہے اور میں تمام لوگوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس سال گھر پر ہی رہیں اور محفوظ طریقے سے خوشیاں منائیں، جبکہ ہم کووڈ-19 کے رد عمل میں اگلے مراحل کے متعلق باخبر رکھنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

- مارٹن میٹیروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

"چونکہ سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھلنے اور بحالی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، لہذا ہمارے عملے نے کینیڈا ڈے کے موقع پر تمام لوگوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے آن لائن دستیاب سرگرمیوں اور فن کے مظاہروں کا ایک زبردست مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس سال اپنے گھر کے آرام و سکون میں محفوظ رہیں اور کینیڈا ڈے منائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 Monika.Duggal@brampton.ca